

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آیات صفات تشابہات میں سے ہیں یا کہ محکمات میں سے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ایک لحاظ سے تو یہ آیات تشابہات کے حکم میں ہیں۔ کیفیت کے لحاظ سے لیکن دوسری جہت سے اگر غور کیا جائے تو یہ آیات الصفات تشابہات میں سے نہیں ہیں کیونکہ معنی کے اعتبار سے عربی زبان میں ان کا معروف معنی بنانا جاتا ہے تو کیفیت کے لحاظ سے یہ آیات تشابہات ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے لیے اللہ کی ذات کو پہچاننا ہی جب محال ہے تو یقیناً اللہ کی صفات پہچاننا بھی ممکن نہیں۔

اس لیے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صفات کے بارے میں بھی نفی و اثبات کے لحاظ وہی کچھ کہنا چاہیے کہ جو ہم اللہ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں تو جس طرح ہم اللہ کے لیے ذات ثابت کرتے ہیں ذات کی نفی نہیں کرتے، نفی سے مراد مطلق انکار۔ تو اسی طرح صفات کے بارے میں بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے صفات ثابت کرتے ہیں۔ اس کی نفی نہیں کرتے لیکن جس طرح اللہ کی ذات کی ہم کیفیت بیان نہیں کرتے اسی طرح صفات کی بھی کیفیت بیان نہیں کرتے۔

حدانا محمدی واللہ اعلم بالصواب

## فتاویٰ البانیہ

### توحید اسماء و صفات کے مسائل صفحہ: 84

محدث فتویٰ